vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 23, 2023 at 10:30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.igcpk.com for download.

June 16, 2023

FARHAN SIDDIQUE Company Secretary

Procedure for E-Voting:

- a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who
 have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of June 15, 2023.
- b. The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- . Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. E-Voting lines will start from June 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 22, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on Registered Office of the Company Ibrahim Centre, 1 Ahmed Block, New Garden Town, Lahore or email at info@igc.com.pk one day before the Extra Ordinary General Meeting on June 22, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.



IBRAHIM FIBRES LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 23, 2023 at 10:30 AM at Avari Hotel, Lahore. UAN: +92 42 111-333-777 Website: www.igcpk.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	and the second of the second o
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached) and the suppress the galaxy of
Additional information and angloguess (in case of consecutation	ue of hady cornerate corneration and

federal Government)

Name of Authorized Signatory

CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)

Resolution For Agenda Item No.2

To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special

Resolved:

"That the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 5.000/- Billion to Rs.75.000/- Billion by creation of 7.000 Billion new ordinary shares of Rs.10/- each."

"Further Resolved:

"That the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs. 5.000/- Billion divided into 500.000 Million ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.75.000/- Billion divided into 7.500 Billion ordinary shares of

Further Resolved:

"That the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect/matters in conformity with the provisions of the Companies Act. 2017."

Further Resolved:

"That the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized jointly and severally to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions.

Further Resolved:

Approval of the members of the Company be and is hereby accorded that "the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to declare and issue fully paid bonus shares as determined by the Board of Directors from unappropriated profits or reserves of the Company.".

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (v) the relevant box

In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick $(\sqrt{})$ mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 2		

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Ibrahim Centre, I Ahmed Block, New Garden Town, Lahore or email at info@igc.com.pk
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday June 22, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
 Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, tom, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of
- the Companies Act, 2017 as applicable. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.igcpk.com Member may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers

Date:

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Karachi: Dated: June 15, 2023 (By the order of the Board) (Abdul Hussain Antaria) Company Secretary



Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

NOTICE FOR CANCELLATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ("EOGM"

This is to inform the Shareholders of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited ("Company") that the Board of Directors has passed a resolution whereby it has decided not to increase the authorized share capital of the Company and the Board has withdrawn all agenda items of EOGM and have decided to cancel the said EOGM, which was scheduled on 22 June 2023 at 11:00 am at Karachi.

The determination of closed period for the said EOGM from 16 June 2023 to 22 June 2023, stands cancelled.

Karachi 16 June 2023

Yasir Ali Quraishi Company Secretary



Habib Rice Products IM.

nd Floor, UBL Building, I.I.Chundrigar Road, Karachi-740 Pakistan, Tel: +92-21-32411887 Fax: +92-21-32414581

Notice for Cancellation of xtraordinary General Meeting

This is to inform the Shareholders of Habib Rice Products Ltd. (the "Company") that a meeting of the Board of Directors of the Company held on June 15. 2023 at 11:00 am at Karachi, has passed a resolution whereby it has decided not to increase the authorized share capital of the Company and the Board has withdrawn the agenda items of Extraordinary General Meeting and have decided to cancel the said meeting which was scheduled to be held on June 26, 2023.

Karachi: June 16, 2023

Ali Asghar Rajani Company Secretary



Habib Sugar Mills Limited

NOTICE FOR CANCELLATION OF THE EXTRA-ORDINARY **GENERAL MEETING (EOGM)**

Notice is hereby given to the shareholders of Habib Sugar Mills Limited that the Board of directors of the Company has decided to cancel the Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company which was scheduled to be held on June 23, 2023.

By Order of the Board

Karachi: June 16, 2023

Imran Amin Virani Company Secretary

یعے پاکستان میں عام انتخابات کی یادد ہانی کروادی

اسام آباد (این این آق) گل نے آست کی ایس به کی گری کے مدہ 1000 آفال با اعلان کی این این افزائ کی نے آست کی مام اجھری مام اجھری کردا نے اور ای اسلام کردا نے اور ای اسلام کردا نے اس اسپیدس نے اور اس کا روز با کہ اس کی با ایس کی مام اس کی مدر کی ایس جھری کے اس کا مدر کردا ہے کہ اس کی مدر کردا ہے کہ با اعلان کی بام اجھری کی موجد سے اسپید اس کی مدر کی جو باس کی مدر کردا ہے گا کے الزور اس کی مدر کردا ہے گا کے اور اس کی مدر کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کے اس کی مدر کردا ہے گا کے اس کی اس کی مدر کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کے اس کی مدر کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کہ کردا ہے گا کے اس کردا ہے گا کہ کہ کردا ہے گا کہ کردا 18/5 (1))

درزوآپ مدان کے موالات کو در سرب ای کریں کے جنس نیب اخر نے کہا کہ مصالات میں موادی ر المساحة المس المساحة المسا کے فیلوں گاف اور اور انتخاب کرنے ہاتی میٹر موسد و بھر میں آگارتھ سے درسے اور انتخاب کا میٹر موسد و بھر میں آگارتھ سے درسے اورال ں دیا جائے۔ جوسوف اہد ہاتی میں ان کا استان کی ا افتان کی ۔ اور ان برال نے کہا کہ حت کے ساتھ افتان کی ۔ اور ان برال نے کہا کہ حق کے ساتھ بالے قدار جس فیب افتر نے کہا کہ طاق میں جائے قدار جس فیب افتر نے کہا کہ کا کا انکار کا کئیں عداف کے سائٹ معالمہ عالم الحالی کا کھی عات عیاب میں میں اور انداز کا دارات مان میں اس کے سامنے زیر فور اندائی ساتہ فیصلہ 184 ہے۔ اندائی جزل کے لیا کہ بریم کوسٹہ آرکی 184 کی آئی تین سکاف کیس میں قانونی سوالت سے ساتھ ماتون کا کا کی جائزہ کی ہے۔ ال کے خروری ہے۔ کر چھلے کاف اول کا کن وہ جاہے۔ اللہ خزار کے جانب میں اتھاے کے جسس نیب افتر کے فیصلے کا حال دیے ہوئے کہا کر گزشتہ کی دیائیں میں مر م كون كرار كل 184 كون تين كروار پروہا کو مان کے حور میں کا بھا کا بھی کے اندازہ مان کو بر حدایا ہے جسٹس اجازہ اسٹن نے کہا کہ میں مانم ہے آریکل 184 کی گئی تھی کے دائرہ مانات کو کہے د حدایا کمیار چیلے جسٹس یا کنتان نے دیدائش دے

بزحايا كيار بيلت

ك العراض بيا الها بالراب قانون ملد بازى عن بعا يا الهاة رنكل 184 كي فق تمن كرقت فيط كفاف

دیے کہ آپ دوخواست کزار کا موافق جیس وہ کھنچ ہیں کہ آنکی ترجم کی جائے۔ تھر جائی کا دائر دکار بڑ صانا اورا کیل کے متر اوال آراد رینا الگ الگ ہے۔ آپ نے تقر جائی کا دوبارہ ماص جیسا بابنا ہے تھر شرد

العاسة مع يدما مستان تك بلؤى كردى كل. كآفاذ رجل جشر صافر أيجزل عن

とういかにんしているかんかっちとし ماستان مارون ميد مراون المساوري والمساوري المراوري المراوري المراوي ا

ري الالمارك ليدرت الولى التافتياركا

Habib Rice Products w. cros. of the first state of

غيرمعمولى اجلاس عام كىمنسوخى كى اطلاع

ن يروذ كنس لمينله (دى " تمينى") ئىشىئر جولدر ز كو بذر بعير بلدا ا

دی بانی سے کو گئی کے بردا آف وائز گیز (کا جابار منتقدرہ اجون ۱۹۳۳ میگا ۱۰۱۰ میل کے کام کار ایک میل ایک قرار دار دھور کی گئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ گئی کے جائز شیخر کیٹر میں اصافی میں کیا جائے گا اور بدر ایم جمعری اجاب مام کے ایجنڈ آ کو سے دینچر دارہ کا لیا ہے۔ اپنیا آخر دواجاب کی اجساس کی کار

فيسلك كاكياب جو٢٦ جون٢٠١ وكومنعقد كياجا فاقعار

3

2

PUBLIC NOTICE / PUBLIC BE CAREFUL

ے پیلی علی برائی کائی مان الدادس مان کے ا مسلم بی میز کو آیا ہے کمیں مصل سے مین کا تولیع کرنا جا ہے در میکان کرنا جائے کر در تھی وہا کہ ترق می اس میں جو کو ان کو اور کا فوات القرائے میں میٹر کی ان کی بری کامیانی ہے جو پیکاراؤید سمین کے پاکریش طرح میزے کیٹشن میں بی کی آئی سے الاس کو دوں میں دائے والے الاروشنی وہا کے الاسک کرتے کیلے جوڑا کم کی کئی سندھ یا لگورٹ میں اس سے مقاف ال جادر المواد المواد

مال المقارع الرياد عدارة ري -(6 مار مودي فرز مفارج الرياد على المراج الرياد مودي وزي الرياد الرياد المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي الموادي الموادي

المراجعة المساويات المساو کی معاونت کے فرائض اسن کاسرے نے سرانیام کی معاونت کے فرائض اسن کاسرے نے سرانیام بے سیکر بازی ملتم وقع پورڈ وسینٹر لاء آفیسر حکد لیمبر

اب سیکریزی علم وقع بھا ویشتر لاہ آلیسر حکولی کے انگر چنگ ریت 18 ہے کے اصابات ہے وال اس الد شاہد کے کا کروان العصوب بال

表回多

اطلاع برائ منسوفي فيرمعمولي اجلاس عام

علان وى بياتى ب كريجارى الشورش كيلي لعائد ك بدرا الف داء يكثرو ف كلي كاليرم

(منصوراته) کانی کریزی

-2023 at 15. €U

عير جوائے ، محكم صحت سندھ نے

بنگای اقدامات کمل کرلیے

سل كرك في الارتماعا المواحدة عند ما يستل كراك و التعالى المواحدة عند ما يستل كراك والتعالى المواحدة ا كراجي لريك حادثات عفرادجان بحق

لكى مروت وكيس اورتيل كى پيدا وارقبل ازونت شروع بوكني

S. CB SHORWELL TICHESSESSE کوری ارویس ریاستان بر بروان سیاس کا گرینگ حادث کے دوران 65 سالہ تان محمد جال بخش ہوگیا در مشکو خام کے مطابق ابتدائی طور پر حادث مطوم تیزر زائر گاڑ کا کی کی گرکا تا یاجا تا ہے۔

حارث رؤف ايس ؤى جيز

ليليه خيرسكالي سفيرنامزد

وف في بيت الإس كى كاردوا لى ديكمي

ال الله المستخدمة المستخدمة المال المستخدمة ا ب على المسائلة المسا

As (10)

سينچرى انشورنس كمپنى لميثد

23 ج ك 2023 وكوكول ك منظور الدوسر ما حرك الإصاف عن منطقة والاق بسلوع الريال البعلة أي ے۔ یو فیرسمول اجاس عام کے مطبقہ بھی بھس کی زرائی ہم 16 بھن 2023ء 23 بھن 2023 بھن 2023 میں 5 میں تھی۔ مشرق مصریدی۔

چيز منPN كى بهناور بېنونى كفاف الزامات هيقت پرجى، اينى كريش

1990 (آئی این لی) تر بدان تقد الفی کریش نے چیئر عن PT کسائولات پرائے دوگل عی کہا ہے کران کی بجن اور جیونی کی گفاف الزامات حقیقت ب کدان کی کارور پر بخوانی کافران الرائد و جمیعت بری می رود به ساز الزامات اید و فاقی که از هم همیت جوادی می به این کرد با رود کارور که با روانی که دختید خان ساز ایر 2002 شرور کارور کارور که داند که دانی است ب که در کارور کارور کارور کارور کارور که دانی است که با که در 2022 می میتی امانون نے در دول بالی در شرور 2022 می میتی امانون نے در دول بالی در شرور کارور کا اسلام آباد (شاتحده ایکیویی) پاکستانی امریکن کاهرش ند امریکی مدد جربانیدان این نکو دیا جس می کهایم بهیس معفوم بواب برگر مناصر نے پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا اتوام لگایا جرب بنیاداور دانی مشافات پرمروزگرد بردول کی شرکت سالد معلوات پر محصر پرمروزگرد بردول کا مشافات سال معلوات پر محصر

3 سیای جماعتوں نے شمولیت کی دعوت دى جمودمولوى كادعوى

کید دارک سے خطک مریقت یا بات نان مجری ا ایک ہیں۔ کہ 4 شین ایک ایک ایک ایک اور ان اس کو سے کا میں ا میں اس کی سے چور 3 سال اور مجلو او انتظام اور انگیا ہاں میں اس کر کئی کے سال داخلاء سے ہو میں کے لین دائر کر کئی کہ کا ان اختیار کے کا میں ان اس کا بارک داخلاج کا بریک کے ساتھ ایک سالی کیا اس مادی میں کا بھی اس کی ساتھ ایک سالی کیا میں مادی میں ایک ساتھ کی ساتھ ایک اس کی ساتھ کیا میں مادی میں ایک ساتھ کی ساتھ کیا ہیں۔

(13) ماندفون

ماری از این می انتخاب روستان که می در در در که در این که در ישושוני (14))

تام شود بالدين الك مخصوص الاستاكو بالركب كرياد برس من بید سول فاد که در که د

مارکیٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ 70 تا 1000 فیصد تک بزیعنے والی قیمتوں کے سب قوت الرید میں انہاں کی

به یا تحتال ادارا و یک احتصاف کی فاده این این از دارای است به با تحتال ادارای است به موانا به آن اس که ۱۳ سال ادارای است به موانا به آن اس که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است که د كاستعال عي اضافر ووالمنفوص آن الآن الموكاش الشرا 2021 عدد المعد عند بادوا ضافر وور 13/1

ہے۔ پاکستان اور امریکا کے تفاقات کی بنیاد یا ہی اور میں

50 كروز والرية جاوز كرميا فناجل (16) برس کمینی

٠٤٠٠٤ (17)

في كركوني كالموال مركاري عادم ويسالي

وال عرب المان بادیش سان دورید به بی بی بینید به سراری پیدسته بر پارش کی رکن معدید جادیدی کردشی و باب کومرتشی جو زیان چسل کی ادرانس نے مرتشی و باب کومرتشی جو کبرد واد انھوں نے میخرگرا کی سے انتقاب میں ان کی

کیدویا تھوں کے میٹر کرون کے سکھوٹی میں میں کا کا میٹری پر ارائی فائل کر قد سے کہا کہ شدہ کے اس کا مدھ کے اس کا مدھ کیا کہ شدہ کے اس کا مدھ ک

اد جود کتے ہے اسکول یا بار جرن، کیا اسکول ک حالت بہرے، انجیکٹن کا کبٹ برحاتا جارا ہے تعادے ہے اسکول ہے ابر جرن، پیٹرز بارٹی کماج عبداردیق نے اسکول ہے ابر جرن، پیٹرز بارٹی کے معراد

ي ميزننۍ يو

پی میزختید ہوئے ہی ہے۔ ایجان کومیڈ کیا واٹی ان ان کا کہنا تھا کہ موقعی واب کراچی کا ویٹ ہے اب اراچی کی تقریر ہوئے گی ، بعد اداں سندھ اسمالی کا ہاری مصدال ہیں تک شاق کر دیا گیا۔

رسیک الاست در سیکا کران دیگری برای کار بینا به است در می تران در می تران داخور کم میزین می میشود کران دیگری به بینا داخور می کار می داشته است و می بینا داخور اینا داخش کی امر 2012 کندهای داخور کار داخور می ترانز می کار می ترانز می کارد این از می اینا می داخور الاست افزار کار برای از داخور می اینا دارد می تاراد می تاراد

((18) الميث لائف

و المحدد المساور المس

15/10 \$ 19)) 001842 x 26, 15, 16, 20.5 Control

ورونڈ آٹ کی ایرے کہ مقطر کھے ہوئے آیا نگاڈی ای می نے اس جائم فرام کا انتہاب سیب کے اشکار درال کلیدی شرائع کر کے واحد کا اس موضوع رفتی ہسینے

سانحہ 9 مئی یا کستان کو کمزور کرنے کی سازش کا نتیجہ بیٹوام اورفوج کے درمیان انتشار اور فاصلہ بڑھانے کامن

شرپیندوں کیخلاف قانونی کارروائی کی ، یا کستانی امریکین کانگریس ، 6 جنوری 2021 مووافشکشن ڈی ہی ہے۔

روایات اور اصولول کے دائرے میں رو کر کی گئے۔ قط میں 6 جوری 2021 مکودا فکشن ڈی

ا جاد اوا المراقع الم

جار باقعا كردورات شرب ورجة والها وعنول كي شاعت 28 سال والرك ما سيك كل عنول كوفر مان كي كول

گی جیدا سے دی ایس بی ایس نے ایک اوم آلار قار کرے چیدی کی گل موارسا کی گاری آمرکز کے رک

میں ان کا کہناتی کہ قریک اضاف دور میں اور شرف کا بام وقال ما قوال کے سام وریش اور میں پر چنے والے جنتے چانسا آدی کوئٹی پر میل رہے ہیں۔ فی ای ایم موسم سے پاس ان پانٹری کا اید میں کروری میں کردی ہی۔ قریمے بر چنز کردی کرائی کی گارائی میں کردی قا کرتریک اند

((24) منانشراني ر کوری ہے۔ اگر موادہ فضل ارض کیتے ہیں کر اب قری فیس رہا تر جماعت کا عام مسان حرورہ ہارتی

رتيس، ان كا كبنا قما كه مران خان . یای اصوادل کی جیاد پر ب ادراب می برقرار ب تقابات اداری فیس الحیاد صل

الآل المراد الم

مدالت نے تو ری فیصلے میں کہا ہے کد مخراور ڈپنی مخبرے ایکش کا شیار ول جاری او نے کے بعد منتوی لیس کیا جاسکتا دعیر کا ایکش منتوی کرنے سے متعلق

بعاصت اسلامی کی تھم امتاع کی در عواست مستر د کی مان کے اسلامی میں مان کا دوران سے سروی بال ہے، عدالت نے بلد یاتی ترسمی ایک 2023 کفالاف فریقین سے واداک طلب کر لیے، حمر ری ایسلے میں مدالت نے کہا کہ بلد یاتی ترمیمی ایک

لفلاف بصاحت اسلاي كي ورخواست منظور كي كي تو دراست میرادرایی میرکا انتاب کا اعدم قراره سنه گاه درخواست منظورگی جانے کی صورت می ہائے گا، در فواست منظور کی جانے کی صورت میں تیر اور ڈیٹی میر کا احقاب پرائے قانون کے اقت

دوباره موكاء ايذ ووكيت جزل في موقف ويا تماك

(23)

بادال بعد 18 دون کے ساتھ پیلیٹر پردسے۔ آخوں نے اس بھا وحدد دوسے المارات کہ 33 ہار یا آزا گا۔ حا ریائی کھر 11 دوران کے ساتھ دوسرے قبر پردیں۔ بعض نے اس بھار ہے اے ای، جیس، سعوی حرب،

اسمیل کو قانون سازی کا پیراه شنیار مامسل ہے براہ راست میر کے افقاب سے متعلق قانون سندھ اسمیل سے اطاق رائے سے متحور کیا اوکل گاورشٹ بڑسمی یک کے 2023ء کے فق عمل محاصل اسازی کے محبر عال ش لوكيتر ك مرادة في كل ادايك مكان كيابر المي القواعد موجود شان الديوليس كدر موان فاز كل الما كان كرد وادا

سل نے بھی دوت ویا تھا، لوکل گورامنت ترمیمی كنثونمنث بورة كلفتن 00 مار المرابع 10 مار مار المرابع الم



ەمنغطى... كنۇنمنىڭ تىزىكۇ قىس

كلفثن كنثونمنث

CMCHI /E III/PE\/7612/14

24 فیمدکا اضافہ ہوا ہے جو 56 فیمد سے بڑھ کر 70 فیمد پر آگیا ہے۔ سے کارہ بار ش 174.5 ارب دفتر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سی ایم سی اسپتال ،لاڑکانه "کرپشن کو کھیں نا

نثر عامر ولد پہو مستوعات و درگره سی ایم سی اسپتال ۱۷ ژکانه مستقل پنه : بلدیکی بستی علی گوهر آباد محله ضلع لاژکانه

عنوان: فائنل نوٹس

ر عام والدي اينيازي وركر بغيرتسي اطلاح اورقصت كي متقودي كيمودي 2022.16.01 سي البسيتك بزرع ع

عِلْ طوري فيرماشرين اوراً بيكيان بين كوفى اخلاع الين ر کاد، آپ کو رول 4-4 طاکر پرجین سنده سول سرویشن (ای اینڈ وی) رائد 1973 کے رول 5 کے ویلی رول (3) کے اقت CMCHL/E-111(PF)/2399 موري. 2022. 10.02 تحت طكاز تولس اور فأعل شكار تولس أور CMCHL/E-III(PF)4617/2 موراد 24.03.2022 جاری سے مجھ عندارت سے برطر فی اربوکا کی دوسکتا ہے۔ بھی آپ نے کوئی جوار

ندى مقررهدت كالدروفرة بذاكك في جواب في تين كرا يالدراع في مسلسل فيرج زخور ير فيرها خرين.

با كوبذر بعيد بقانونس بنداكي اشاعت كالمدرون جوده (14) يوم أيك مرجية اين برريورث كرنية اورغير مجاز طور برغير عاضرر ك كافتى الدريد جاريت كى جاتى ب يس عن الاى كامورت عن الدوسول مرويش (اى ايدوى) درار 1973 كامتعال شاق علاق المراحة مذكرد ياجانيكا جآب كى مركارى دادمت ، رطر في ارجوا كلى يومكا ب-ومنعظ ميذيكل برنتنذن

چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال ،لاڑکانه پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL PARISTAN REVENUES
SUR OFFICE, QUETTA اطلاع برائے وفاقی پشنوز

الحرابطساق في ينتان سند بالزاع يشوان الذي في التي المستقد (DCS) يعظ لک مارق ان کی موارف کے کے طبقہ کیا ہا ہے جو کہا ہے مصاببہ ڈیل کا کی وہری براے داموراست انتخاص اگر است کی بارا مسرب آخر کر کھنے کا مان آوٹ استان کا کھنٹر کر کھنٹر کر کھنڈر کا کھنٹر کے بدر کا کھنٹر کے ساتھ

س همن ين كي مح معلومات ك في ورياد ال الموزير والطاكرين. 1. استنت كا وَعَلَى آ فِيرِ 8033036 و 0321 2. استندا كاذنش آ فير 8001809-0321

Last Payment w/5/45 500 14 14 5.1

اله مك الأن قارم (علية ولك عاقبه الأرادو). -351.852.1

0321-8023764-17-11-3

401-40400

استنت دار يمز (د بايواى ايد لي) ذائر يكنوريث آف ووسن أنج لينث

ایک در قواست گزارگوم رف ایک اسای کیلئا در قواست و بی ہے۔ پائھٹی اور مقرر دیار رخ کے بعد میصول اونے والی در قواست زیر قور قیس او کی جا سکی۔ مرکاری یا لیس کے مطابق میں رعایت الی جانگی۔ واک ان افزوج نر 2023، 2066 کا داختر زیر بھی عمد منتقد کے جانمی گ حمکہ بادا عجد والدی کا کہنا ہے اساس میں کو منتقد کے جانمی گ

يزه كلومكنا وكم الأكم اليك سال تجربه

الإراق وكالعظامة للكال

ومن وع لينث وبارامنث المادل ا

مد في هوي الإي الأي الأي الأي الما يعال الما إن الما المن الما المنظمة وكورا المنظمة المن 2023 من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

يني تيريزي

دفتر اسسئنٹ ڈائریکٹر (ڈبلیو ای اینڈ پی) المريكتوريث آف وومن ديولپمنث ، وومن ديولپمنث دپارتمنث

حرف الى اور المارت السنة سكك سكك الميدواران كوائز ويحبط الما يؤجؤنك

PERSON

آيا(نياش ـ 01) 18-28

چکيار(نياکي۔01) 18-28

ملی کا معن کا این ما می کارد. امای کانام اللا نے کے اور اور کا قریم کریں۔ ایک در تواست کز ارکھ رف ایک امای کیلے در تواست و فی

م امامون کی تعداد